

سُوْرَةُ الْمُزَمَّمِلِ مَكِّيَّةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا كُرُوعَانٌ

سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی اس میں آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۝١ قُمْ أَيْلًا إِلَّا

اے بھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا

قَلِيلًا ۝٢ بَصْفَةً أَوْ انْقُصْ مِنْهُ

کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم

قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ

کو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن

الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٤ إِنَّا سَنُلْقِيْ

خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شک عنقریب ہم

عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ إِن

تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات

نَاشِئَةٌ أَيْلًا هِيَ أَشَدُّ وُطْأً

کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات

وَأَقْوَمُ قِيْلًا ۖ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ

خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو

سَبْحًا طَوِيْلًا ۗ وَادْكُرُ اسْمَ

بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد

رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ

کرو اور سب ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو

رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

وہ پورب کا رب اور پیچھم کا رب اس کے سوا

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وِكِيْلًا ۙ وَأَصْبِرْ

کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں

عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ

کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح

هَجْرًا جَمِيْلًا ۙ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ

چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے

أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْدَلْهُمْ قِلِيْلًا ۙ

مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَارًا وَجَحِيمًا ۝١٢

بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣

اور گلے میں پھنتا کھانا اور دردناک عذاب

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ

وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝١٤

اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہت بڑا

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۝١٥

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا

کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝١٦ فَعَصَىٰ

طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس

فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ

رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اُسے سخت

أَخْذًا وَّيَسِيرًا ۝ فَيُفَكِّفُ تَتَّقُونَ

گرفت سے پکڑا پھر کیسے پیچو گے اگر

إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ

کفر کرو اس دن جو پیچوں کو

الْوُدَانَ شَيْبًا ۝ السَّمَاءِ

بوڑھا کر دے گا آسمان اس کے

مُنْفَطِرًا بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا

إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ

بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب

اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

کی طرف راہ لے بے شک

رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ

تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو

أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ

کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات

وَشُلِّتَهُ وَطَائِفَهُ مِّنَ الَّذِينَ
 کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ

مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَقْدِرُ
 والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ

الْبَيْتِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنَّ لَكَ
 فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو تم سے رات

تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے

فَاقْرَأْ وَأَمَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
 تم پر رجوع فرمائی اب تو قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوتا پڑھو

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
 اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ تم میں سے

مَرَضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
 بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر

فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 کریں گے اللہ کا فضل تلاش

فَضِّلِ اللّٰهَ ۙ وَاٰخِرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ

کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے

فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَاقْرَءْ وَاَمَّا

ہوں گے تو جتنا قرآن میسر

تَيْسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو

وَاتُوا الزَّكٰوةَ ۙ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا

اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض

حَسَنًا ۙ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ

دو اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو

خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا ۙ

کے اُسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے

اَعْظَمَ اَجْرًا ۙ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۙ اِنَّ

توابع کی پاؤں کے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک

اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

اللہ بخشنے والا مہربان ہے